

القرآن الكريم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطاں کے شر سے

المنزل- ۶

آیاتھا - ۱۷۵ , زُكُو عَاتْهَا - ۱۹

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ - ۲۴

زُكُو عَاتْهَا- ۸

سُوْرَةُ الزُّمَرِ (مَكِّي)

آیاتھا- ۷۵

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ<sup>ط</sup> أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ  
الْمَنْزُورُ<sup>۶-</sup> لِّلْكَافِرِينَ<sup>۳۲</sup>

پھر اس سے کون زیادہ ظالم ہے جس نے اللہ پر جھوٹ بولا اور سچی<sup>۳۲</sup>  
بات کو جھٹلایا جب اس کے پاس آئی کیا دوزخ میں کافروں کا ٹھکانا  
نہیں ہے<sup>۶- المنزل</sup>

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ<sup>ط</sup> أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ<sup>۳۳</sup>  
اور جو سچی بات لایا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی پرہیزگار  
ہیں

لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ<sup>ط</sup> ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ<sup>۳۴</sup>  
ان کے لیے جو کچھ وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس موجود ہوگا<sup>۳۴</sup>  
نیکو کاروں کا یہی بدلہ ہے

لِيَكْفِرَ اللَّهُ عَنْهُمْ<sup>ط</sup> أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا  
يَعْمَلُونَ<sup>۳۵</sup>

تاکہ اللہ ان سے وہ برائیاں دور کر دے جو انہوں نے کی تھیں اور اللہ ۳۵  
ان کو ان کا اجر دے ان نیک کاموں کے بدلہ میں جو وہ کیا کرتے تھے

أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ<sup>ط</sup> وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ<sup>ط</sup> مِنْ دُونِهِ<sup>ط</sup> وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ  
مِنْ هَادٍ<sup>ع</sup> ۳۶

کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں اور وہ آپ کو ان لوگوں سے ڈراتے ۳۶  
ہیں جو اس کے سوا ہیں اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے راہ پر  
لانے والا کوئی نہیں

وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ<sup>ط</sup> أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ<sup>ع</sup> ۳۷  
اور جسے اللہ راہ پر لے آئے تو اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں کیا ۳۷  
اللہ غالب بدلہ لینے والا نہیں ہے

وَلَيْنُ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ<sup>ط</sup> قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا  
تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّيهِ أَوْ أَرَادَنِي  
بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ<sup>ط</sup> قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ<sup>ع</sup> ۳۸

او راگر آپ ان سے پوچھیں آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ۳۸  
ہے تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے کہہ دو بھلا دیکھو تو سہی جنہیں تم  
اللہ کے سوا پکارتے ہو اگر اللہ مجھے تکلیف دینا چاہے تو کیا وہ اس  
کی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں یا وہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو

کیا وہ اس مہربانی کو روک سکتے ہیں کہہ دو مجھے اللہ کافی ہے  
توکل کرنے والے اسی پر توکل کیا کرتے ہیں

قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلٰی مَكَانَتِكُمْ اِنِّیْ عَامِلٌۢ فَاَسُوۡتَ تَعْلَمُوۡنَ ﴿۳۹﴾

کہہ دو اے میری قوم تم اپنی جگہ پر کام کیے جاؤ میں بھی کر رہا ہوں  
پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا

مَنْ یَّاتِیۡهِ عَذَابٌ یُّخْزِیۡهِ وَیَحِلُّ عَلَیۡهِ عَذَابٌ مُّقۡیۡمٌ ﴿۴۰﴾

کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے اور کس پر دائمی عذاب  
اترتا ہے

اِنَّا اَنْزَلْنَا عَلَیۡكَ الْكِتٰبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّۚ فَمَنْ اهْتَدٰی فَلِنَفْسِہٖۚ وَمَنْ ضَلَّۤ فَانَّمَا  
ہٖ یُضِلُّ عَلَیۡہَاۚ وَمَا اَنْتَ عَلَیۡہِمۡ بِوٰكِلٍ ﴿۴۱﴾

بے شک ہم نے آپ پر یہ کتاب سچی لوگوں کے لیے اتاری ہے پھر  
جو راہ پر آیا سو اپنے لیے اور جو گمراہ ہوا سو وہ گمراہ ہوتا ہے اپنے  
اعبرے کو اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں

اللّٰهُ یَتَوَفّٰی الْاَنْفُسَ حِیۡنَ مَوۡتِہَا وَالَّتِیۡ لَمۡ تَمُتۡ فِیۡ مَنَامِہَاۚ فِیۡمَسِکُ الَّتِیۡ قَضٰی  
عَلَیۡہَا الْمَوۡتَ وَ یُرۡسِلُ الْاٰخِرٰی اِلٰی اَجَلٍ مُّسَمًّیۚ اِنَّ فِیۡ ذٰلِکَ لَآیٰتٍ لِّقَوۡمٍ  
یَّتَفَكَّرُوۡنَ ﴿۴۲﴾

اللہ ہی جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے اور ان جانوں  
کو بھی جن کی موت ان کے سونے کے وقت نہیں آئی پھر ان جانوں کو  
روک لیتا ہے جن پر موت کا حکم فرما چکا ہے اور باقی جانوں کو

ایک میعاد معین تک بھیج دیتا ہے بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے  
نشانیوں ہیں جو غور کرتے ہیں

أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ ۗ قُلْ أَوْلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٤٣﴾

کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور حمایتی بنا رکھے ہیں کہہ دو کیا اگرچہ ﴿٤٣﴾  
وہ کچھ بھی اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ عقل رکھتے ہوں

قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ۗ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٤٤﴾  
کہہ دو ہر طرح کی حمایت اللہ ہی کے اختیار میں ہے آسمانوں اور ﴿٤٤﴾  
زمین میں اسی کی حکومت ہے پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے

وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ۗ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ  
مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٤٥﴾

اور جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو لوگ آخرت پر یقین نہیں ﴿٤٥﴾  
رکھتے ان کے دل نفرت کرتے ہیں اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر  
کیا جاتا ہے تو فوراً خوش ہو جاتے ہیں

قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ  
عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٤٦﴾

کہہ دو اے اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے ہر چھپی او ﴿٤٦﴾  
رکھلی بات کے جاننے والے تو ہی اپنے بندوں میں فیصلہ کرے گا اس

بات میں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں

وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ

الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴿٤٧﴾

اور اگر ظالموں کے پاس جو کچھ زمین میں ہے سب ہو اور اسی قدر ﴿٤٧﴾ اس کے ساتھ اور بھی ہو تو قیامت کے بڑے عذاب کے معاوضہ میں دے کر چھوٹنا چاہیں گے اور اللہ کی طرف سے انہیں وہ پیش آئے گا کہ جس کا انہیں گمان بھی نہ تھا

وَإِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيُؤْتِيهِمُ اللَّهُ مِمَّا رَزَقَهُمْ مِنْ غَيْبِهِ إِذَا يَشَاءُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٤٨﴾

اور برے کاموں کی برائی ان پر ظاہر ہو جائے گی اور ان کو وہ ﴿٤٨﴾ عذاب کہ جس پر ہنسی کیا کرتے تھے پکڑ لے گا

فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ

بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٩﴾

پھر جب آدمی پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے پھر جب ہم ﴿٤٩﴾ اسے اپنی نعمت عطا کرتے ہیں تو کہتا ہے یہ تو مجھے میری عقل سے ملی ہے بلکہ یہ نعمت آزمائش ہے ولیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے

قَدْ قَالُوا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٥٠﴾

بے شک یہی بات وہ لوگ کہہ چکے ہیں جو ان سے پہلے تھے پس ﴿٥٠﴾ ان کے نہ کام آیا جو کچھ وہ کماتے رہے

فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيَصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٥١﴾

پھر ان پر ان کے اعمال کی برائی آ پڑی اور ان میں سے جو لوگ ﴿٥١﴾ ظلم کر رہے ہیں عنقریب ان کو بھی برے نتائج ان برے عملوں کے پہنچیں گے اور وہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾

اور کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہی روزی کشادہ کرتا ہے جس کی ﴿٥٢﴾ چاہے اور تنگ کرتا ہے بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ع ہیں جو ایمان رکھتے ہیں

قُلْ يِعْبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥٣﴾

کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اللہ کی ﴿٥٣﴾ رحمت سے مایوس نہ ہو بے شک اللہ سب گناہ بخش دے گا بے شک وہ بخشنے والا رحم والا ہے

وَإِنِّيَبُؤَا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصِرُونَ ﴿٥٤﴾

اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کا حکم مانو اس سے ﴿٥٤﴾ پہلے کہ تم پر عذاب آئے پھر تمہیں مدد بھی نہ مل سکے گی

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً  
وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٥٥﴾

اور ان اچھی باتوں کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے ﴿٥٥﴾  
نازل کی گئی ہیں اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آجائے اور  
تمہیں خبر بھی نہ ہو

أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَحْسَرْتُنِي عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّخِرِينَ ﴿٥٦﴾

کہیں کوئی نفس کہنے لگے ہائے افسوس اس پر جو میں نے اللہ کے ﴿٥٦﴾  
حق میں کوتاہی کی اور میں تو ہنسی ہی کرتا رہ گیا

أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٥٧﴾

یا کہنے لگے اگر اللہ مجھے ہدایت کرتا تو میں پرہیزگاروں میں ہوتا ﴿٥٧﴾

أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾

یا کہنے لگے جس وقت عذاب کو دیکھے گا کہ کاش مجھے میسر ہو ﴿٥٨﴾  
واپس لوٹنا تو میں نیکو کاروں میں سے ہوجاؤں

بَلَىٰ قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكٰفِرِينَ ﴿٥٩﴾

ہاں تیرے پاس میری آیتیں آچکی تھیں سو تو نے انہیں جھٹلایا اور تو ﴿٥٩﴾  
نے تکبر کیا اور تو منکروں میں سے تھا

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ  
مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٦٠﴾

اور قیامت کے دن آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جو اللہ پر جھوٹے ﴿٦٠﴾  
الزام لگاتے ہیں کہ ان کے منہ سیاہ ہوں گے کیا دوزخ میں تکبر کرنے  
والوں کا ٹھکانہ نہیں ہے

وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ ۚ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦١﴾  
اور اللہ ان لوگوں کو کامیابی کے ساتھ نجات دے گا جو (شُرک و ﴿٦١﴾  
کفر سے) بچتے تھے انہیں تکلیف نہیں پہنچے گی اور نہ وہ غمگین ہوں  
گے

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿٦٢﴾

اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے ﴿٦٢﴾

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيٰتِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿٦٣﴾

﴿٦٣﴾

آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں اور جو اللہ کی ﴿٦٣﴾  
آیتوں کے منکر ہوئے وہی نقصان اٹھانے والے ہیں

قُلْ اَفَغَيْرِ اللّٰهِ تَمْرُوٓنِيۙ اَعْبُدُ اِيَّهَا الْجٰهِلُوْنَ ﴿٦٤﴾

کہہ دو اے جاہلو کیا مجھے اللہ کے سوا اور کی عبادت کرنے کا حکم ﴿٦٤﴾  
دیتے ہو

وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِن أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ  
مِنَ الْخُسْرَىٰ ۖ ﴿٦٥﴾

اور بے شک آپ کی طرف اور ان کی طرف وحی کیا جا چکا ہے جو ﴿٦٥﴾  
آپ سے پہلے ہو گزرے ہیں کہ اگر تم نے شرک کیا تو ضرور تمہارے  
عمل برباد ہو جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گے

بَلِ اللّٰهُ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿٦٦﴾  
بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور جس کے شکر گزار رہو ﴿٦٦﴾

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۗ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ  
مَطْوِيّٰتٌ بِيَمِيْنِهِ ۗ سُبْحٰنَهُ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٧﴾  
اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ﴿٦٧﴾  
ہے اور یہ زمین قیامت کے دن سب اسی کی مٹھی میں ہو گی اور  
آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے وہ پاک اور برتر ہے  
اس سے جو وہ شریک ٹھیراتے ہیں

وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ۗ ثُمَّ  
نُفِخَ فِيْهِ اٰخْرٰى فَاِذَا هُمْ قِيٰاَمٌ يَّنظُرُوْنَ ﴿٦٨﴾

اور صور پھونکا جائے گا تو بے ہوش ہو جائے گا جو کوئی آسمانوں ﴿٦٨﴾  
اور جو کوئی زمین میں ہے مگر جسے اللہ چاہے پھر وہ دوسری دفعہ  
صور پھونکا جائے گا تو یکایک وہ کھڑے دیکھ رہے ہوں گے

وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِئْتُ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ  
بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٩﴾

اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور کتاب رکھ دی ﴿٦٩﴾  
جاوے گی اور نبی اور گواہ لائے جاویں گے اور ان میں انصاف سے  
فیصلہ کیا جاوے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا

وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٧٠﴾

اور ہر شخص کو جو کچھ اس نے کیا تھا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ﴿٧٠﴾  
ع اور وہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں

وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَتَحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ  
خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ  
يَوْمِكُمْ هَٰذَا ۖ قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٧١﴾

اور جو کافر ہیں دوزخ کی طرف گروہ گروہ ہانکے جائیں گے یہاں ﴿٧١﴾  
تک کہ جب اسکے پاس آئیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں  
گے اور ان سے اس کے داروغہ کہیں گے کیا تمہارے پاس تم ہی میں  
سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں تمہارے رب کی آیتیں پڑھ کر  
سناتے تھے اور آج کے دن کے پیش آنے سے تمہیں ڈراتے تھے کہیں  
گے ہاں لیکن عذاب کا حکم (علم ازلی میں) منکروں پر ہو چکا تھا

قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا فَبئسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٢﴾

کہا جائے گا دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اس میں سدا رہو ﴿72﴾  
گے پس وہ تکبر کرنے والوں کے لیے کیسا برا ٹھکانہ ہے

وَسَيَقَ الَّذِينَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ  
لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴿73﴾

اور وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے جنت کی طرف گرو ہ 73  
گروہ لے جانے جائیں گے یہاں تک کہ جب وہ اس کے پا پہنچ جائیں  
گے اور اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے اور ان سے اس کے  
داروغہ کہیں گے تم پر سلام ہو تم اچھے لوگ ہو اس میں ہمیشہ کے  
لیے داخل ہو جاؤ

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَّهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَّبِعُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ  
نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمَلِينَ ﴿74﴾

اور وہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کیا 74  
اور ہمیں اس زمین کا وارث کر دیا کہ ہم جنت میں جہاں چاہیں رہیں  
پھر کیا خوب بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا

وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ  
بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿75﴾

اور آپ فرشتوں کو حلقہ باندھے ہوئے عرش کے گرد دیکھیں گے 75  
اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑھ رہے ہیں اور درمیان انصاف

سے فیصلہ کیا جائے گا اور سب کہیں گے سب تعریف اللہ ہی کے لیے  
عہ ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے

رُكُوْا عَآئِهَا-۹	سُوْرَةُ الْمُؤْمِنِ / غَافِرٍ (مَكِّي)	آيَاتُهَا-۸۵
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ		
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے		

حَمَّ ①

حَمَّ ①

تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ②

یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو غالب ہر چیز کا جانے والا ہے

غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيْرُ

③

گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا سخت عذاب دینے والا ③  
قدرت والا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی کی طرف لوٹ کر  
جانا ہے

مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللّٰهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرَكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ ④

اللہ کی آیتوں میں نہیں جھگڑتے مگر وہ لوگ جو کافر ہیں پس ان کا ④  
شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکا نہ دے

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ ۖ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ ۗ وَجَادِلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ ۗ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۗ ﴿٥﴾

ان سے پہلے قوم نوح اور ان کے بعد اور فرقے بھی جھٹلا چکے ہیں ﴿٥﴾ اور ہر ایک امت نے اپنے رسول کو پکڑنے کا ارادہ کیا اور غلط باتوں کے ساتھ بحث کرتے رہے تاکہ اس سے دین حق کو مٹا دیں پھر ہم نے انہیں پکڑ لیا پھر کیسی سزا ہوئی

وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ ﴿٦﴾

اور اسی طرح منکروں پر اللہ کا کلام پورا ہوا کہ وہ دوزخی ہیں ﴿٦﴾

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ

تَابُوا وَاتَّبِعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿٧﴾

جو (فرشتے) عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گرد ہیں ﴿٧﴾ وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں اور ایمانداروں کے لیے بخشش مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب تیری رحمت اور تیرا علم سب پر حاوی ہے پھر جن لوگوں نے توبہ کی ہے اور تیرے راستے پر چلتے ہیں انہیں بخش دے اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچالے

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ  
وُدُّرِّيَّتِهِمْ ۗ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۙ ﴿٨﴾

اے ہمارے رب اور انہیں بہشتوں میں داخل کر جو ہمیشہ رہیں گی ﴿٨﴾  
جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے اور ان کو جو ان کے باپ دادوں  
اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے نیک ہیں بے شک تو غالب  
حکمت والا ہے

وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ ۗ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ ۗ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۙ  
﴿٩﴾

اور انہیں برائیوں سے بچا اور جس کو تو اس دن برائیوں سے بچائے ﴿٩﴾  
ع ۶ گا سو اس پر تو نے رحم کر دیا اور یہ بڑی کامیابی ہے

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى  
الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ ﴿١٠﴾

بے شک جو لوگ کافر ہیں انہیں پکار کر کہا جائے گا جیسی تمہیں ﴿١٠﴾  
(اس وقت) اپنے سے نفرت ہے اس سے بڑھ کر اللہ کو (تم سے) نفرت  
تھی جبکہ تم ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے پھر نہیں مانا کرتے  
تھے

قَالُوا رَبَّنَا آمَنَّا اِثْنَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اِثْنَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّنْ  
سَبِيلٍ ﴿١١﴾

وہ کہیں گے اے ہمارے رب تو نے ہمیں دو بار موت دی اور تو نے ⑪  
 ہمیں دوبارہ زندہ کیا پس ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا پس کیا  
 نکلنے کی بھی کوئی راہ ہے

ذٰلِكُمْ بِاَنَّهٗ اِذَا دُعِيَ اللّٰهُ وَحَدَاةً كَفَرْتُمْ ۗ وَاِنْ يُشْرِكْ بِهٖ تُؤْمِنُوْا ۗ فَالْحٰكُمُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ  
 الْكَبِيْرِ ⑫

یہ عذاب اس لیے ہے کہ جب تم اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو ⑫  
 انکار کرتے تھے اور جب اس کے ساتھ شریک کیا جاتا تھا تو مان لیتے  
 تھے سو یہ فیصلہ اللہ کا ہے جو عالیشان بڑے رتبے والا ہے

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ اٰيٰتِهٖ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ رِزْقًا ۗ وَمَا يَتَذَكَّرُ اِلَّا مَنْ يُنۡبِئُ  
 ⑬

وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان ⑬  
 سے رزق نازل کرتا ہے اور سمجھتا وہی ہے جو (اللہ کی طرف)  
 رجوع کرتا ہے

فَادْعُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۗ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ⑭

پس اللہ کو پکارو اس کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے اگرچہ ⑭  
 کافر برا منائیں

رَفِيْعَ الدَّرَجٰتِ ذُو الْعَرْشِ ۗ يُلْقِي الرُّوْحَ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ لِيُنۡذِرَ  
 يَوْمَ التَّلَاقِ ⑮

وہ اونچے درجوں والا عرش کا مالک ہے اپنے حکم سے اپنے بندوں ⑮  
میں سے جس کے پاس چاہتا ہے وحی بھیجتا ہے تاکہ وہ ملاقات  
(قیامت) کے دن سے ڈرائے

يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ ۚ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ۗ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ۗ لِلَّهِ  
الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ⑯

جس دن وہ سب نکل کھڑے ہوں گے اللہ پر ان کی کوئی بات چھپی نہ ⑮  
رہے گی آج کس کی حکومت ہے اللہ ہی کی جو ایک ہے بڑا غالب

الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۗ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ⑰  
آج کے دن ہر شخص اپنے کیے کا بدلہ پائے گا آج کچھ ظلم نہ ہوگا ⑰  
بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے

وَأَنْذَرَهُمْ يَوْمَ الْأَرْفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَظْمِينَ ۗ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ  
حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ⑱

اور انہیں قریب آنے والی (مصیبت) کے دن سے ڈرا جب کہ غم کے ⑱  
مارے کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے ظالموں کا کوئی حمایتی نہیں ہوگا  
اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ⑲

وہ آنکھوں کی خیانت اور دل کے بھید جانتا ہے ⑲

وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ  
 السَّمِيعُ الْبَصِيرُ<sup>ع</sup> ②٠

اور اللہ ہی انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا اور جنہیں وہ اس کے ②٠  
 سوا پکارتے ہیں وہ کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے بیشک اللہ ہی سب  
 کچھ سننے والا دیکھنے والا ہے

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا  
 هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ  
 اللَّهِ مِنْ وَّاقٍ ②١

کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی کہ وہ دیکھتے ان لوگوں کا ②١  
 انجام کیسا تھا جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں وہ قوت میں ان سے بڑھ  
 کر تھے اور زمین میں آثار کے اعتبار سے بھی پھر اللہ نے انہیں ان  
 کے گناہوں کے سبب سے پکڑ لیا اور ان کے لیے اللہ سے کوئی بچانے  
 والا نہ تھا

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ  
 شَدِيدُ الْعِقَابِ ②٢

یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لے کر آتے ②٢  
 تھے تو وہ انکار کرتے تھے پس انہیں اللہ نے پکڑ لیا بے شک وہ بڑا  
 قوت والا سخت عذاب دینے والا ہے

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ②٣

اور ہم نے موسیٰ کو اپنے معجزات اور واضح دلیل دے کر بھیجا تھا ﴿23﴾

إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سِحْرٌ كَذَّابٌ ﴿24﴾

فرعون اور ہامان اور قارون کی طرف تو وہ کہنے لگے بڑا جھوٹا ﴿24﴾  
جادوگر ہے

فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا  
نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكٰفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلٰلٍ ﴿25﴾

پس جب وہ ان کے پاس ہماری طرف سے سچا دین لائے تو کہنے ﴿25﴾  
لگے ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کر دو جو موسیٰ پر ایمان لائے ہیں  
اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دو اور کافروں کے داؤ تو محض  
غلط ہوا کرتے ہیں

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ  
يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ﴿26﴾

اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑ دو میں موسیٰ کو قتل کر دوں اور ﴿26﴾  
وہ اپنے رب کو پکارے میں ڈرتا ہوں کہ وہ تمہارے دین کو بدل ڈالے  
گا یا یہ کہ زمین میں فساد پھیلائے گا

وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿27﴾

اور موسیٰ نے کہا میں تو اپنی اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں ﴿۲۷﴾  
 ۸ع ہر ایک متکبر سے جو حساب کے دن پر یقین نہیں رکھتا

وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ  
 اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ ۗ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ ۗ وَإِنْ يَكُ  
 صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴿۲۸﴾

اور فرعون کی قوم میں سے ایک ایمان دار آدمی نے کہا جو اپنا ﴿۲۸﴾  
 ایمان چھپاتا تھا کیاتم ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ  
 میرا رب اللہ ہے اور وہ تمہارے پاس وہ روشن دلیلیں تمہارے رب کی  
 طرف سے لایا ہے اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اسی پر اس کے جھوٹ کا  
 وبال ہے اور اگر وہ سچا ہے تو تمہیں کچھ نہ کچھ وہ (عذاب) جس کا  
 وہ تم سے وعدہ کرتا ہے پہنچے گا اور اللہ اس کو راہ پر نہیں لاتا جو  
 حد سے بڑھنے والا بڑا جھوٹا ہے

يَقَوْمِ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَهَرِينَ فِي الْأَرْضِ ۗ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ  
 جَاءَنَا ۗ قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴿۲۹﴾  
 اے میری قوم آج تو تمہاری حکومت ہے تم ملک میں غالب ہو ہماری ﴿۲۹﴾  
 کون مدد کرے گا اگر ہم پر اللہ کا عذاب آگیا فرعون نے کہا میں تو  
 تمہیں وہی سوجھاتا ہوں جو مجھے سوجھی ہے اور میں تمہیں سیدھا ہی  
 راستہ بتاتا ہوں

وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَوْمَ يَقَوْمِ إِيَّيَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ ۗ ﴿٣٠﴾

اور اس شخص نے کہا جو ایمان لایا تھا کہ اے میری قوم مجھے تو ﴿٣٠﴾ تمہاری نسبت (پہلی) امتوں جیسے دن کا اندیشہ ہو رہا ہے

مِثْلَ دَابِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ

﴿٣١﴾

جیسا کہ قوم نوح اور عاد اور ثمود اور ان سے پچھلوں کا حال ہوا ﴿٣١﴾ اور اللہ تو بندوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرنا چاہتا

وَيَقَوْمِ إِيَّيَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ۗ ﴿٣٢﴾

اور اے میری قوم مجھے تم پر چیخ و پکار (قیامت) کے دن کا ﴿٣٢﴾ اندیشہ ہے

يَوْمَ تُولُونِ مُدْبِرِينَ ۗ مَا لَكُمْ مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ۗ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ

هَادٍ ۗ ﴿٣٣﴾

جس دن تم پیٹھ پھیر کر بھاگو گے اللہ سے تمہیں کوئی بچانے والا ﴿٣٣﴾ نہیں ہوگا اور جسے اللہ گمراہ کر دے پھر اسے کوئی راہ بتانے والا نہیں

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ ۗ حَتَّىٰ

إِذَا هَلَكَ قَلْبُكُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا ۗ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ

مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ ۗ ﴿٣٤﴾

اور تمہارے پاس یوسف بھی اس سے پہلے واضح دلیلیں لے کر آ ۳۴  
 چکا پس تم ہمیشہ اس سے شک میں رہے جو وہ تمہارے پاس لایا یہاں  
 تک کہ جب وہ فوت ہو گیا تو تم نے کہا کہ اللہ اس کے بعد کوئی رسول  
 ہر گز نہیں بھیجے گا اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے اس کو جو حد سے  
 بڑھنے والا شک کرنے والا ہے

الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَنٍ أَتَهُمْ ۖ كَبْرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ  
 أَمْوًا ۗ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُّتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ۝۳۵

جو لوگ اللہ کی آیتوں میں کسی دلیل کے سوا جو ان کے پاس پہنچی ۳۵  
 ہو جھگڑتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کے نزدیک (یہ) بڑی نازیبا بات  
 ہے اللہ ہر ایک متکبر سرکش کے دل پر اسی طرح مہر کر دیا کرتا ہے

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامِنُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ ۝۳۶

اور فرعون نے کہا اے ہامان میرے لیے ایک محل بنا تاکہ میں ۳۶  
 راستوں پر پہنچوں

أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا ۗ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ

عِ سُوًءَ عَمَلِهِ وَضَدَّ عَنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ۝۳۷

یعنی آسمان کے راستوں پر پھر موسیٰ کے خدا کی طرف جھانک کر ۳۷  
 دیکھوں اور میں تو اسے جھوٹا خیال کرتا ہوں اور اسی طرح فرعون  
 کو اس کا برا عمل اچھا معلوم ہوا اور وہ راستہ سے روکا گیا تھا اور  
 فرعون کی ہر تدبیر غارت ہی گئی

وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَوْمَ اتَّبَعُونَ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ ۝<sup>38</sup>

اور اس شخص نے کہا جو ایمان لایا تھا اے میری قوم تم میری پیروی کرو میں تمہیں نیکی کی راہ بتاؤں گا

يَقَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ۝<sup>39</sup>

اے میری قوم دنیا کی زندگی بس (چند روزہ) فائدے ہیں اور آخرت کا گھر ہی ٹھہرنے کی جگہ ہے

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ

مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝<sup>40</sup>

جس نے برا کام کیا تو اتنی ہی سزا پائے گا اور جس نے نیک کام کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت اور وہ ایماندار بھی ہو سو وہ جنت میں داخل ہوں گے جہاں انہیں بے حساب روزی ملے گی

النصف وَيَقَوْمٍ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجْوَةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ ۝<sup>41</sup>

اور اے میری قوم کیا بات ہے میں تو تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلاتے ہو

تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ

النصف الْغَفَّارِ ۝<sup>42</sup>

تم مجھے اس بات کی طرف بلاتے ہو کہ میں اللہ کا منکر ہو جاؤں اور اس کے ساتھ اسے شریک کروں جسے میں جانتا بھی نہیں اور میں

تمہیں غالب بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں

لَا جْرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنْ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ④③

بے شک تم مجھے جس کی طرف بلاتے ہو وہ نہ دنیا میں بلانے کے ④③ قابل ہے اور نہ آخرت میں اور بے شک ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور بے شک حد سے بڑھنے والے ہی دوزخی ہیں

فَسْتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفَوضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ④④  
پھر تم میری بات کو یاد کرو گے اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد ④④ کرتا ہوں بے شک اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے

فَوَقَّعَهُ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ④⑤  
پھر اللہ نے اسے تو ان کے فریبوں کی برائی سے بچایا اور خود ④⑤ فرعونوں پر سخت عذاب آ پڑا

النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ④⑥

وہ صبح اور شام آگ کے سامنے لائے جاتے ہیں اور جس دن قیامت ④⑥ قائم ہو گی (حکم ہوگا) فرعونوں کو سخت عذاب میں لے جاؤ

وَإِذْ يَتَحَاوُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعْفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُّعْتَدُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ ④⑦

اور جب دوزخی آپس میں جھگڑیں گے پھر کمزور سرکشوں سے ④۷  
کہیں گے کہ ہم تمہارے پیرو تھے پھر کیا تم ہم سے کچھ بھی آگ دور  
کر سکتے ہو

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ④۸

سرکش کہیں گے ہم تم سبھی اس میں پڑے ہوئے ہیں بے شک اللہ ④۸  
اپنے بندوں میں فیصلہ کر چکا ہے

وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ④۹

اور دوزخی جہنم کے داروغہ سے کہیں گے کہ تم اپنے رب سے ④۹  
عرض کرو کہ وہ ہم سے کسی روز تو عذاب ہلکا کر دیا کرے

قَالُوا أَوْلَمْ تَأْتِكُمْ رُسُلُكُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَىٰ قَالُوا فادْعُوا وَمَا دَعَا  
الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ⑤۰

وہ کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول نشانیاں لے کر نہ آئے ⑤۰  
تھے کہیں گے ہاں (آئے تھے) کہیں گے پس پکارو اور کافروں کا  
پکارنا محض بے سود ہو گا

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ⑤۱

ہم اپنے رسولوں اور ایمانداروں کے دنیا کی زندگی میں بھی مددگار ⑤۱  
ہیں اور اس دن جب کہ گواہ کھڑے ہوں گے

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ⑤۲

جس دن ظالموں کو ان کا عذر کرنا کچھ بھی نفع نہ دے گا اور ان پر ⑤۲  
پھٹکار پڑے گی اور ان کے لیے برا گھر ہوگا

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْثَرْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ ⑤۳

اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت دی تھی اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب ⑤۳  
کا وارث کر دیا تھا

هُدَىٰ وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ⑤۴

جو عقلمندوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی ⑤۴

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ⑤۵

پس صبر کر بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اپنے گناہ کی معافی ⑤۵  
مانگ اور شام اور صبح اپنے رب کی حمد کے ساتھ پاکی بیان کر

إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ ۖ إِنَّ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرًا مَّا  
هُمْ بِبَالِغِيهِ ۖ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ⑤۶

بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں میں بغیر اس کے کہ ان کے پاس ⑤۶  
کوئی دلیل آئی ہو جھگڑتے ہیں اور کچھ نہیں بس ان کے دل میں بڑائی  
ہے کہ وہ اس تک کبھی پہنچنے والے نہیں سو اللہ سے پناہ مانگو کیوں  
کہ وہ سننے والا دیکھنے والا ہے

لَخَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ⑤۷

البتہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا آدمیوں کے پیدا کرنے کی نسبت ⑤۷  
بڑا کام ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۗ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ ۗ  
قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ⑤۸

اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں اور جو لوگ ایمان لائے اور ⑤۸  
نیک کام کئے وہ اور بدکار برابر نہیں تم بہت ہی کم سمجھتے ہو

إِنَّ السَّاعَةَ لَأْتِيَةٌ ۗ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ⑤۹

بے شک قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اکثر لوگ ⑤۹  
یقین نہیں کرتے

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ  
جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ⑥۰

اور تمہارے رب نے فرمایا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول ⑥۰  
کروں گا بے شک جو لوگ میری عبادت سے سرکشی کرتے ہیں  
اعنقریب وہ ذلیل ہو کر دوزخ میں داخل ہوں گے

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى  
النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ⑥۱

اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں آرام کرو ⑥۱  
اور دن کو ہر چیز دکھانے والا بنایا بے شک اللہ لوگوں پر بڑے فضل

والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے

ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ فَأَلِيُّ تُوْفِكُونَ ﴿٦٢﴾

یہی اللہ تمہارا رب ہے ہر چیز کا پیدا کرنے والا اس کے سوا کوئی ﴿٦٢﴾  
معبود نہیں پھر کہاں الٹے جا رہے ہو

كَذَلِكَ يُؤْفِكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٦٣﴾

اسی طرح وہ لوگ بھی الٹے چلا کرتے تھے جو اللہ کی نشانیوں کا ﴿٦٣﴾  
انکار کیا کرتے تھے

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ۖ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوْرَكُمْ

وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ ۖ فَتَبَرَّكُ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٤﴾

اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو آرام گاہ بنایا اور آسمان کو ﴿٦٤﴾  
چھت اور تمہاری صورتیں بنائیں اور پاکیزہ چیزوں سے تمہیں رزق دیا  
وہی اللہ تمہارا پالنے والا ہے پس سارے جہان کا پالنے والا اللہ با برکت  
ہے

هُوَ الْحَيُّ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٥﴾

وہی ہمیشہ زندہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں پس اسی کو پکارو ﴿٦٥﴾  
خاص اسی کی بندگی کرتے ہوئے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو  
سارے جہان کا پالنے والا ہے

قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِي الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي ۚ

وَأُمِرْتُ أَنْ أُسَلِّمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٦﴾

کہہ دو مجھے تو ان چیزوں کی عبادت سے منع کیا گیا ہے جن کو تم ﴿۶۶﴾  
 اللہ کے سوا پکارتے ہو جب کہ میرے رب کی طرف سے میرے پاس  
 کھلی کھلی نشانیاں آچکی ہیں اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں رب  
 العالمین کے سامنے سر جھکاؤں

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تَرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا  
 ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ ثُمَّ لَتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يَتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا  
 أَجَلًا مُّسَمًّى وَّلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۶۷﴾

وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پھر نطفے سے پھر خون بستہ سے ﴿۶۷﴾  
 پیدا کیا پھر وہ تمہیں بچہ بنا کر نکالتا ہے پھر باقی رکھتا ہے تاکہ تم  
 اپنی جوانی کو پہنچو پھر یہاں تک کہ تم بوڑھے ہو جاتے ہو کچھ تم  
 میں اس سے پہلے مر جاتے ہیں (بعض کو زندہ رکھتا ہے اور تاکہ تم  
 وقت مقررہ تک پہنچو اور تاکہ تم سمجھو

هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿۶۸﴾  
 وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے پس جب وہ کسی امر کیا ﴿۶۸﴾  
 فیصلہ کر لیتا ہے تو صرف اس سے یہی کہتا ہے کو ہو جا تو وہ ہو جاتا

۱۲ع ہے

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّىٰ يُصْرَفُونَ ﴿۶۹﴾

کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ﴿۶۹﴾  
 ہیں وہ کہاں پھرے چلے جا رہے ہیں

الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا<sup>٧٠</sup> فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ<sup>٧٠</sup>

وہ لوگ جنہوں نے کتاب کو اور جو کچھ ہم نے رسولوں کو دے کر ⑦۰  
بھیجا تھا سب کو جھٹلا دیا پس انہیں معلوم ہو جائے گا

إِذِ الْأَغْلُلُ فِي آعْنَاقِهِمْ وَالسَّلْسِلُ يُسْحَبُونَ<sup>٧١</sup>

جب کہ طوق اور زنجیریں ان کے گلے میں ڈال کر گھسیٹے جائیں ⑦۱  
گے

فِي الْحَمِيمِ<sup>٧٢</sup> ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ<sup>٧٢</sup>

کھولتے پانی میں پھر آگ میں جھونکے جائیں گے ⑦۲

ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ<sup>٧٣</sup>

پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں جنہیں تم شریک بتاتے تھے ⑦۳

مِنْ دُونِ اللَّهِ<sup>٧٤</sup> قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يُضِلُّ  
اللَّهُ الْكٰفِرِينَ<sup>٧٤</sup>

اللہ کے سوا وہ کہیں گے ہم سے وہ کھوئے گئے بلکہ ہم تو اس سے ⑦۴  
پہلے کسی چیز کو بھی نہیں پکارتے تھے اسی طرح اللہ کافروں کو  
گمراہ کرتا ہے

ذٰلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ<sup>٧٥</sup>

یہ عذاب تمہیں اس لیے ہوا کہ تم ملک میں ناحق خوشیاں مناتے تھے ⑦۵  
اور اس لیے بھی کہ تم اترایا کرتے تھے

أَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا فَبئسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٦﴾

جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ پھر تکبر کرنے والوں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَمَا تُرِيدُكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفِّيكَ فَأَلَيْنَا  
يُرْجَعُونَ ﴿٧٧﴾

پھر صبر کر بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے پھر جس (عذاب) کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں کچھ تھوڑا سا اگر ہم آپ کو دکھا دیں یا ہم آپ کو وفات دے دیں تو ہماری طرف ہی سب لوٹائے جائیں گے

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّن لَّمْ نَقْصُصْ  
عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ  
وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ﴿٧٨﴾

اور ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول بھیجے تھے بعض ان میں سے وہ ہیں جن کا حال ہم نے آپ پر بیان کر دیا اور بعض وہ ہیں کہ ہم نے آپ پر انکا حال بیان نہیں کیا اور کسی رسول سے یہ نہ ہو سکا کہ کوئی معجزہ اذن الہی کے سوا ظاہر کر سکے پھر جس وقت اللہ کا حکم آئے گا ٹھیک فیصلہ ہو جائے گا اور اس وقت باطل پرست نقصان اٹھائیں

۱۳ ع گے

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٩﴾

اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے تاکہ تم ان میں سے ⑦۹  
بعض پر سوار ہو اور بعض کو تم کھاتے ہو

وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبَلَّغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَى الْفُلْكِ  
تُحْمَلُونَ ⑧۰

اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فوائد ہیں اور تاکہ تم ان پر سوار ⑧۰  
ہو کر اپنی حاجت کو پہنچو جو تمہارے سینوں میں ہے اور ان پر اور  
نیز کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو

وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ ۗ فَآيَىٰ آيَاتِ اللَّهِ تُشْكِرُونَ ⑧۱

اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے پس تم اللہ کی کون کون سی ⑧۱  
نشانوں کا انکار کرو گے

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۗ كَانُوا أَكْثَرَ

مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا آغْنَىٰ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ⑧۲

پس کیا انہوں نے ملک میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ جو لوگ ان ⑧۲  
سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کا کیا انجام ہوا وہ لوگ ان سے زیادہ تھے  
اور قوت اور نشانوں میں (بھی) جو کہ زمین پر چھوڑ گئے ہیں بڑھے  
ہوئے تھے پس ان کے نہ کام آیا جو کچھ وہ کماتے تھے

فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا


كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ⑧۳

پس جب ان کے رسول ان کے پاس کھلی دلیلیں لائے تو وہ اپنے علم ⑧۳ و دانش پر اترانے لگے اور جس پر وہ ہنسی کرتے تھے وہ ان پر الٹ پڑا

فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحَدَاهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ⑧۴  
 پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب آتے دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم اللہ پر ⑧۴ ایمان لائے جو ایک ہے اور ہم نے ان چیزوں کا انکار کیا جنہیں ہم اس کا شریک ٹھیراتے تھے

فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ ⑧۵  
 ۱۳ع وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكٰفِرُونَ ⑧۵

پس انہیں ان کے ایمان نے نفع نہ دیا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا ⑧۵ لیا یہ سنت الہی ہے جو اس کے بندوں میں گزر چکی ہے اور اس وقت ۱۳ع کافر خسارہ میں رہ گئے



① حَمَّ

① حم

تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ②

یہ کتاب) بڑے مہربان نہایت رحم والے کی طرف سے نازل ہوئی) ② ہے

كِتَابُ فَصَلَّتْ آيَةُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ<sup>٣</sup>

کہ جس کی آیتیں عربی زبان میں علم والوں کے لیے واضح ہیں ③

بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ<sup>④</sup>

خوشخبری دینے والی ڈرانے والی ہے پھر ان میں سے اکثر نے تو ④  
منہ ہی پھیر لیا پھر وہ سنتے بھی نہیں

وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِيْ أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِيْ آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ

الغلاة فَأَعْمَلْنَا عَمَلُونَ<sup>⑤</sup>

اور کہتے ہیں ہمارے دل اس بات سے کہ جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ⑤  
ہے پردوں میں ہیں اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے اور ہمارے اور آپ  
کے درمیان پردہ پڑا ہوا ہے پھر آپ اپنا کام کیے جائیں ہم بھی اپنا کام  
کر رہے ہیں الغلاة

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَا إِلَهُمُ إِلَهٌُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ

وَاسْتَغْفِرُوا<sup>٦</sup> وَيَلُّ لِّلْمُشْرِكِينَ<sup>٧</sup>

آپ ان سے کہہ دیں کہ میں بھی تم جیسا ایک آدمی ہوں میری طرف ⑥  
یہی حکم آتا ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے پھر اس کی طرف سیدھے  
چلے جاؤ اور اس سے معافی مانگو اور مشرکوں کے لیے ہلاکت ہے

الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَفَرُونَ<sup>⑦</sup>

جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں ⑦

۱۵. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝<sup>۸</sup>

بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام بھی کیے ان ۸  
۱۵ کے لیے بے انتہا اجر ہے

قُلْ أَيْنَكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ  
رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝<sup>۹</sup>

کہہ دو کیا تم اس کا انکار کرتے ہو جس نے دو دن میں زمین بنائی ۹  
اور تم اس کے لیے شریک ٹھہراتے ہو وہی سب جہانوں کا پروردگار  
ہے

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً  
لِّلسَّائِلِينَ ۝<sup>۱۰</sup>

اور اس نے زمین میں اوپر سے پہاڑ رکھے اور اس میں برکت دی ۱۰  
اور چار دن میں اس کی غذاؤں کا اندازہ کیا (یہ جواب) پوچھنے والوں  
کے لیے پورا ہے

ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا  
أَتَيْنَا طَائِعِينَ ۝<sup>۱۱</sup>

پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں تھا پس اس کو اور ۱۱  
زمین کو فرمایا کہ خوشی سے آؤ یا جبر سے دونوں نے کہا ہم خوشی  
سے آئے ہیں

فَقَضَيْنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا ۗ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ  
الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ ۗ وَحِفْظًا ۗ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝۱۲

پھر انہیں دو دن میں سات آسمان بنا دیا اور اس نے ہر ایک آسمان ۱۲  
میں اس کا کام القا کیا اور ہم نے پہلے آسمان کو چراغوں سے زینت  
دی اور حفاظت کے لیے بھی یہ زبردست ہر چیز کے جاننے والے کا  
اندازہ ہے

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ۝۱۳

پس اگر وہ نہ مانیں تو کہہ دو میں تمہیں کڑک سے ڈراتا ہوں جیسا ۱۳  
کہ قوم عاد اور ثمود پر کڑک آئی تھی

إِذْ جَاءَتْهُمْ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ  
شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كٰفِرُونَ ۝۱۴

جب ان کے پاس رسول آئے ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے ۱۴  
سے کہ سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہ کرو تو کہنے لگے کہ اگر  
ہمارا رب چاہتا تو فرشتے نازل کر دیتا پس ہم تو اس چیز سے جو تم  
دے کر بھیجے گئے ہو منکر ہیں

فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ۗ أُولَٰئِكَ يَرَوْنَ  
أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۗ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ۝۱۵

پس قوم عاد نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور کہا ہم سے طاقت میں ۱۵  
کون زیادہ ہے کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے

وہ ان سے طاقت میں کہیں بڑھ کر ہے وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحْسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ﴿١٦﴾

پس ہم نے ان پر منحوس دنوں میں تیز آندھی بھیجی تاکہ ہم انہیں ذلت کے عذاب کا مزہ دنیا کی زندگی میں چکھا دیں اور آخرت کا عذاب تو اور بھی ذلت کا ہے اور ان کی مدد نہ کی جائے گی

وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمُ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٧﴾

اور وہ جو قوم ثمود تھی ہم نے انہیں ہدایت کی سو انہوں نے گمراہی کو بمقابلہ ہدایت کے پسند کیا پھر انہیں کڑا کے کے ذلیل کرنے والے عذاب نے آلیا ان کے اعمال کے سبب سے

وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿١٨﴾

اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے رہتے تھے ہم نے انہیں بچا لیا ﴿١٨﴾

ع ۱۶

وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٩﴾

اور جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف ہانکیں جائیں گے تو وہ ﴿١٩﴾ روک لیے جائیں گے

حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا  
يَعْمَلُونَ ﴿٢٠﴾

یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آ پہنچیں گے تو ان پر ان کے کان ﴿٢٠﴾  
اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں گواہی دیں گی جو کچھ وہ کیا  
کرتے تھے

وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُم عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ  
خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢١﴾

وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی ﴿٢١﴾  
دی وہ کہیں گے کہ ہمیں اللہ نے گویائی دی جس نے ہر چیز کو گویائی  
بخشی ہے اور اسی نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا اور اسی کی طرف تم  
لوٹائے جاؤ گے

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ  
وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٢﴾

اور تم اپنے کانوں اور آنکھوں اور چمڑوں کی اپنے اوپر گواہی ﴿٢٢﴾  
دینے سے پردہ نہ کرتے تھے لیکن تم نے یہ گمان کیا تھا جو کچھ تم  
کرتے ہو اس میں سے بہت سی چیزوں کو اللہ نہیں جانتا

وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخُسْرَيْنِ ﴿٢٣﴾  
اور تمہارے اسی خیال نے جو تم نے اپنے رب کے حق میں کیا تھا ﴿٢٣﴾  
تمہیں برباد کیا پھر تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے

فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ<sup>ط</sup> وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا لَهُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ<sup>٢٤</sup>

پس اگر وہ صبر کریں تو بھی ان کا ٹھکانہ آگ ہی ہے اور اگر وہ<sup>٢٤</sup> معافی چاہیں گے تو انہیں معافی نہیں دی جائے گی

وَقَيِّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّيْنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ

ع<sup>١٤</sup> فِي أُمَّمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خُسِرِينَ<sup>٢٥</sup>

اور ہم نے ان کے لیے کچھ ہمنشین مقرر کر دیئے پس انہوں نے ان<sup>٢٥</sup> کو وہ (برے کام) اچھے کر دکھائے جو پہلے کر چکے تھے اور جو پیچھے کریں گے اور ان پر حکم الہی ثابت ہو چکا تھا پہلی امتوں کے ضمن میں جو ان سے پہلے جنوں اور انسانوں میں سے گزر چکی تھیں<sup>ع</sup> بے شک وہ نقصان اٹھانے والے تھے

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ<sup>٢٦</sup>

اور کافروں نے کہا کہ تم اس قرآن کو نہ سناؤ اور اس میں غل مچاؤ<sup>٢٦</sup> تاکہ تم غالب ہو جاؤ

فَلَنَذِقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَشْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ<sup>٢٧</sup>

پس ہم ضرور کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور ہم ان<sup>٢٧</sup> کے بدترین اعمال کا بدلہ دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے

ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَائِرُ الْخُلْدِ<sup>ط</sup> جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا

يَجْحَدُونَ<sup>٢٨</sup>

اللہ کے دشمنوں کی یہی سزا آگ ہی ہے ان کے لیے اس میں ہمیشہ ②۸  
 رہنے کا گھر ہے اس کا بدلہ جو ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ أَخْلَلْنَا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ  
 أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ②۹

اور کافر کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں وہ لوگ دکھا جنہوں نے ہمیں ②۹  
 گمراہ کیا تھا جنوں اور انسانوں میں سے ہم انہیں اپنے قدموں کے  
 نیچے ڈال دیں تاکہ وہ بہت ذلیل ہوں

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا  
 تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ③۰

بے شک جنہوں نے کہا تھا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے ③۰  
 ان پر فرشتے اتریں گے کہ تم خوف نہ کرو اور نہ غم کرو اور جنت  
 میں خوش رہو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا

نَحْنُ أَوْلَىٰ بِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۗ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهَىٰ أَنفُسُكُمْ  
 وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ③۱

ہم تمہارے دنیا میں بھی دوست تھے اور آخرت میں بھی اور بہشت ③۱  
 میں تمہارے لیے ہر چیز موجود ہے جس کو تمہارا دل چاہے اور تم جو  
 وہاں مانگو گے ملے گا

ع ۱۸ نَزَّلًا مِّنْ غَفْوٍ رَّحِيمٍ ③۲

ع ۱۸ بخشنے والے نہایت رحم والے کی طرف سے مہمانی ہے ③۲

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٣﴾

اور اس سے بہتر کس کی بات ہے جس نے لوگوں کو اللہ کی طرف ﴿٣٣﴾  
بلایا اور خود بھی اچھے کام کیے اور کہا ہے شک میں بھی  
فرمانبرداروں میں سے ہوں

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۗ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ  
عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿٣٤﴾

اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی (برائی کا) دفعیہ اس بات سے ﴿٣٤﴾  
کیجیئے جو اچھی ہو پھر ناگہاں وہ شخص جو تیرے اور اس کے  
درمیان دشمنی تھی ایسا ہوگا گویا کہ وہ مخلص دوست ہے

وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٣٥﴾

اور یہ بات نہیں دی جاتی مگر انہیں جو صابر ہوتے ہیں اور یہ بات ﴿٣٥﴾  
نہیں دی جاتی مگر اس کو جو بڑا بخت والا ہے

وَأَمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٦﴾

اور اگر آپ کو شیطان سے کوئی وسوسہ آنے لگے تو اللہ کی پناہ ﴿٣٦﴾  
مانگیئے بے شک وہی سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۗ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ

وَأَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿٣٧﴾

اور اس کی نشانیوں میں سے رات اور دن اور سورج اور چاند ہیں ﴿۳۷﴾  
سورج کو سجدہ نہ کرو اور نہ چاند کو اور اس اللہ کو سجدہ کرو جس  
نے انہیں پیدا کیا ہے اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو

فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا  
يَسْمَعُونَ <sup>السجدة</sup> ﴿۳۸﴾

پھر اگر وہ تکبر کریں تو وہ لوگ جو آپ کے رب کے پاس ہیں رات ﴿۳۸﴾  
دن اس کی تسبیح کرتے ہیں اور تھکتے نہیں <sup>السجدة</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ  
الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيٍ الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۳۹﴾

اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تو زمین کو دبی ہوئی دیکھتا ﴿۳۹﴾  
ہے پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو ابھرتی ہے اور پھولتی ہے  
بے شک جس نے اسے زندہ کیا وہی مردوں کو زندہ کرے گا بے شک  
وہی ہر چیز پر قادر ہے

إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَنْ يُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي  
أُمَّنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ ۗ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۴۰﴾

بے شک جو لوگ ہماری آیتوں میں کجروی کرتے ہیں وہ ہم سے ﴿۴۰﴾  
چھپے نہیں رہتے کیا وہ شخص جو آگ میں ڈالا جائے گا بہتر ہے یا وہ  
جو قیامت کے دن امن سے آئے گا جو چاہو کرو جو کچھ تم کرتے ہو  
وہ دیکھ رہا ہے

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ۝٤١

بے شک وہ لوگ جنہوں نے نصیحت سے انکار کیا جب کہ وہ ان ۴۱ کے پاس آئی اور تحقیق وہ البتہ عزت والی کتاب ہے

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ۝٤٢

جس میں نہ آگے اور نہ پیچھے سے غلطی کا دخل ہے حکمت والے ۴۲ تعریف کیے ہوئے کی طرف سے نازل کی گئی ہے

مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ۝٤٣

آپ سے وہی بات کہی جاتی ہے جو آپ سے پہلے رسولوں سے کہی ۴۳ گئی تھی بے شک آپ کا رب بخشنے والا اور دردناک عذاب دینے والا بھی ہے

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ ۚ قُلْ هُوَ

لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ ۚ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ

عَمًى ۚ أُولَٰئِكَ يُنَادُونَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۝٤٤

اور اگر ہم اسے عجمی زبان کا قرآن بنا دیتے تو کہتے کہ اس کی ۴۴ آیتیں صاف صاف بیان کیوں نہیں کی گئیں کیا عجمی کتاب اور عربی رسول کہہ دو یہ ایمان داروں کے لیے ہدایت اور شفا ہے اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کان بہرے ہیں اور وہ قرآن ان کے حق میں نابینائی ہے وہ لوگ (گو یا کہ) دور جگہ سے پکارے جا رہے ہیں

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ<sup>ط</sup> وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ

بَيْنَهُمْ<sup>ط</sup> وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ<sup>٤٥</sup>

اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی پھر اس میں اختلاف کیا گیا اور<sup>٤٥</sup>  
اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات صادر نہ ہو چکی ہوتی تو ان  
کا فیصلہ ہی ہو چکا ہوتا اور انہیں تو قرآن میں قوی شک ہے

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ<sup>٤٦</sup>

جو کوئی نیک کام کرتا ہے تو اپنے لیے اور برائی کرتا ہے تو اپنے لیے<sup>٤٦</sup>  
سر پر اور آپ کا رب تو بندوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا